

70472 - اذان اور اقامت کہنے والے کا اجر و ثواب

سوال

اذان اور اقامت کہنے والے کا اجر و ثواب کیا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

سنت نبویہ میں مؤذن کے اجر و ثواب پر دلالت کرنے والی احادیث موجود ہیں، یہ اجر و ثواب کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا، ذیل میں ہم چند ایک احادیث بیان کرتے ہیں:

1 - عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعۃ انصاری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا:

میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے بکریاں اور بادیہ نشینی بہت پسند ہے، چنانچہ اگر تو اپنی بکریوں یا پھر دیہات میں ہو اور اذان کہو تو بلند آواز سے اذان کہنا، کیونکہ مؤذن کی اذان کی آواز جو جن اور انسان اور کوئی اور چیز سنے وہ روز قیامت اس کی گواہی دے گی۔

ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: میں نے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی "

صحیح بخاری حدیث نمبر (584) .

2 - معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" روز قیامت مؤذن سب سے لمبی گردنوں والے ہونگے "

صحیح مسلم حدیث نمبر (387) .

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

" اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب زیادہ جھانکنے والے لوگ؛ کیونکہ جھانکنے والا شخص

جسے دیکھنا چاہتا ہو اس کی جانب گردن لمبی کر کے دیکھتا ہے۔

چنانچہ اس کا معنی یہ ہوا: وہ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیکھیں گے۔

اور نضر بن شمیل کہتے ہیں: روز قیامت جب لوگ پسینے میں شرابور ہو کر ڈوبنے لگیں گے تو ان کی گردنیں لمبی ہو جائیں گی تا کہ یہ تکلیف اور پسینہ انہیں نہ پہنچے۔

اور ایک قول یہ بھی ہے کہ: وہ سردار اور رئیس ہونگے، اور عرب لوگ گردن لمبی ہونے کے ساتھ سرداروں کی وصف بیان کرتے ہیں۔

اور ایک قول یہ بھی ہے کہ: ان کی پیروی کرنے والے زیادہ ہونگے۔

اور ابن الاعرابی کہتے ہیں: اس کا معنی یہ ہے کہ: اعمال میں سب سے زیادہ لوگ۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ کہتے ہیں: بعض نے "إِعْنَاقًا" یعنی الف پر زیر کے ساتھ روایت کیا ہے، جس کا معنی جنت کی طرف جلد جانے کا ہے "انتہی

اور العنق تیزی کے ساتھ چلنے کی ایک قسم ہے۔

دیکھیں: شرم مسلم للنووی (91 / 4 - 92)۔

3 - ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو تو اور اگر انہیں اس کے لیے قرعہ اندازی بھی کرنا پڑے تو وہ قرعہ اندازی ضرور کریں"

صحیح بخاری حدیث نمبر (590) صحیح مسلم حدیث نمبر (437)۔

حدیث کا معنی یہ ہے کہ:

اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے عظیم اجر و ثواب کا علم ہو اور وہ اذان کہنے یا پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے قرعہ اندازی کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ پائیں تو وہ اس کے لیے قرعہ اندازی ضرور کریں، تا کہ اس کا عظیم اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔

4 - براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اور مؤذن کی آواز پہنچنے کے برابر اسے بخشش حاصل ہوتی ہے، اور جو خشک اور تر چیز اسے سننے کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی نماز ادا کرے اسے بھی اس جتنا ہی ثواب حاصل ہوتا ہے"

سنن نسائی حدیث نمبر (646) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح الترغیب حدیث نمبر (235) میں اسے صحیح کہا ہے۔

اور اقامت کہنے کی فضیلت بھی مندرجہ بالا اذان کی احادیث میں ہی شامل ہوتی ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کو اذان کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"دونوں اذانوں کے مابین نماز ہے"

صحیح بخاری حدیث نمبر (598) صحیح مسلم حدیث نمبر (838)۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

قولہ: "بین کل اذانین" دونوں اذانوں کے مابین، یعنی اذان اور اقامت کے مابین۔ انتہی

اقامت کی فضیلت میں بھی ایک خاص حدیث وارد ہے:

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"جو شخص بارہ برس تک اذان کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور ہر دن کی اذان کے بدلے اس کے لیے ساٹھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے بدلے تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں"

سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (728) علامہ منذی اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح کہا ہے۔

دیکھیں: صحیح الترغیب حدیث نمبر (248)۔

واللہ اعلم .